



## سوال

(614) پان، مونگ پھلی وغیرہ کھڑے ہو کر کھانا

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کھڑے ہو کر کھانے میں مثلاً الائچی، پان، مونگ پھلی، یادانے، ٹافی وغیرہ کے کھانے کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ان چیزوں کو بھی بیٹھ کر کھانا ہی بہتر ہے۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

## احکام و مسائل

## کھانے پینے کے احکام ج 1 ص 444

## محدث فتویٰ